



میرے ویزے کی میعاد ختم ہوگئی ہے

کووڈ-19 کی تشخیص اور علاج

اگرچہ آپ کے پاس ویزا نہ ہو، یا آپ کو اپنے ویزا کی حیثیت یقینی طور پر معلوم نہ ہو، پھر بھی آپ کو صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو، طبی امداد حاصل کریں اور کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروائیں۔ ریاستی اور علاقائی حکومتیں کووڈ-19 کی تشخیص اور علاج مفت میں فراہم کر رہے ہیں۔

• [آسٹریلیوی دار الحکومت علاقہ](#)

• [نیو ساؤتھ ویلز](#)

• [شمالی علاقہ جات](#)

• [کوئینزلینڈ](#)

• [جنوبی آسٹریلیا](#)

• [تسمانیہ](#)

• [وکتوریہ](#)

• [مغربی آسٹریلیا](#)

میرے ویزے کی میعاد ختم ہوگئی ہے

28 دن کے اندر میعاد ختم ہو رہی ہے

اگر آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو قانونی طور پر رہنے کے لیے فوراً [بریکنگ ویزا \(BVE\) E](#) کے لئے درخواست دینی ہوگی۔ BVE ایک قلیل مدتی ویزا ہے جو آسٹریلیا چھوڑنے کے انتظامات کرنے کے دوران آپ کے قیام کو قانونی طور پر درست بنا دیتا ہے۔

اگر آپ آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نئے ویزا کے لئے درخواست دینا ضروری ہے۔ آپ کے حالات سے آپ کے ویزے کے اختیارات کا تعین ہوگا اور یہ کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ضروری ہے۔ آپ کو آسٹریلیا میں رہتے ہوئے مزید ویزا کے لئے درخواست دینے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا انحصار اس بات ہے کہ آپ کے ویزا کی میعاد کتنی مدت پہلے ختم ہوئی ہے۔

کووڈ-19 کی وجہ سے ویزا کی درخواست کے عمل سے متعلق کچھ خدمات متاثر ہو سکتی ہیں اور بہت ساری ایسی خدمات جن پر ہم منحصر ہیں (جیسے طبی معائنہ اور بائیو میٹرک جمع کرنا) وہ تیزی سے عدم دستیاب ہو رہی ہیں۔ درخواست دہندگان کو جانچ مکمل کرانے اور درخواست کی گئی معلومات فراہم کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے گا۔

28 دن سے پہلے میعاد ختم ہوگئی ہے

اگر آپ کے ویزے کی میعاد گزرے 28 دن سے زیادہ ہوگئے ہیں، تو اپنی امیگریشن حیثیت کو حل کرنے میں مدد کے لیے، براہ کرم [اسٹیٹس ریزولوشن سروس \(SRS\)](#) سے رابطہ کریں۔